

# India-CARICOM Foreign Ministers' Meeting

September 24, 2022

## بھارت- سی اے آر آئی سی او ایم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ

24 ستمبر، 2022

23 ستمبر 2022 کو نیویارک میں یو این جی اے کے سائیڈ لائنز پر ہندوستان- سی اے آر آئی سی او ایم کے وزرائے خارجہ کی چوتھی میٹنگ منعقد ہوئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور بلیز کے خارجہ امور، خارجہ تجارت اور امیگریشن کے وزیر عزت مآب ایمن کورٹے نے اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔

2- یہ میٹنگ ستمبر 2019 میں یو این جی اے کے موقع پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی سی اے آر آئی سی او ایم ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ تاریخی ملاقات کے بعد منعقد ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں باربڈوس، ٹومینیکا، بہاماس، گریناڈا، گیانا، جمیکا، سینٹ کٹس اینڈ نیوس، سینٹ ونسنٹ اینڈ دی گریناڈائنز، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو اور سورینام کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔

3- میٹنگ کے دوران، دونوں فریقوں نے ہندوستان اور سی اے آر آئی سی او ایم کے ممالک کے درمیان تعاون میں مسلسل پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے 2019 میں سی اے آر آئی سی او ایم کے رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی میٹنگ کے دوران کیے گئے اعلانات کے نفاذ کا بھی جائزہ لیا۔

4- دونوں فریقین نے سیاسی تعلقات کو گہرا کرنے، اور وبائی امراض کے بعد کی اقتصادی بحالی کے تناظر میں تجارت اور سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ دونوں فریقوں نے ترقیاتی شراکت داری اور صلاحیت سازی پر بھی غور کیا جس میں ضرورت کے حساب سے اور خصوصی تربیتی کورسز اور سی اے آر آئی سی او ایم ممالک کی ضروریات پر مبنی ماہرین کی ڈیپوٹیشن شامل ہیں۔

5- سی اے آر آئی سی او ایم کے رہنماؤں نے ضروری ادویات اور ویکسین کی فراہمی کے ذریعے ظاہر کی گئی کووڈ-19 وبائی بیماری کے دوران ہندوستان کی یکجہتی کو تسلیم کیا اور شکریہ ادا کیا۔ دونوں فریقوں نے تعاون کے ممکنہ شعبوں جیسے کہ صحت اور دواسازی، روایتی ادویات، آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس کی صلاحیت سازی، ثقافت اور کھیلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

6- دونوں فریقوں نے بین الاقوامی فورم پر جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے خوراک اور توانائی کی حفاظت، موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور لچک جیسے عالمی مسائل پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔

7- انہوں نے بڑے اور متحرک ہندوستانی باشندوں کے ادا کردہ کردار اور ان کے تعاون پر روشنی ڈالی جو ہندوستان اور کیریبین خطے کے درمیان دوستی کے ایک پائیدار کڑی کے طور پر کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے لوگوں کے رابطوں اور ثقافتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا۔

8- چوتھی انڈیا۔ سی اے آر آئی سی او ایم وزرائے خارجہ کی میٹنگ نے دو طرفہ اور عالمی سیاق و سباق دونوں میں اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے دونوں فریقوں کے عزم پر زور دیا۔

نیویارک

23 ستمبر، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.